بسم اللہ الرحمن الرحیم

بیاض تسخیر و حاضرات نوری

پیر سید صفدر شاہ بخاری مدظلہ العالی
(نقشبندی قادری محمدی چشتی صابری)

اس کتاب میں نسل در نسل اور سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والے تسخیر و حاضرات جنات پر پاک موکلات وارواح کے عملیات نوری ہیں جو کہ مکمل مجرب اور درست ہیں

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

بیاض تسخیر و حاضرات نوری



پیر سید صفدر شاہ بخاری مدظلہ العالی
نقشبندی قادری محمدی چشتی صابری

اس کتاب میں نسل در نسل اور سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والے تسخیر و حاضرات جنات پر پاک موکلات وارواح کے عملیات نوری ہیں جو کہ مکمل مجرب اور درست ہیں

0323-4487877, 042-35410586
مکتبۃ العارف دار العمل چشتیہ
+maktabatulaarif
darulamal.org/bookshop, maktabatulaarif@gmail.com
0332-4487877 | +maktabatulaarif

فہرست مضامین

اس کتاب کے تمام عملیات کی مکمل کتاب کی اجازت
و مرتب منیل حمید نقشبندی خلیفہ مجاز پیر سید
صفدر محمود بخاری کے پاس محفوظ ہے
عملیات کی رہنمائی اور اجازت منیل حمید نقشبندی سے
ادارہ ھذا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں

سید صفدر محمود شاہ بخاری

منیل حمید نقشبندی

حاضرات تسخیر قلب

أجب یا جبرائیل اللہ الصمد أجب یا میکائیل
لم یلد ولم یولد أجب یا اسرافیل ولم یکن لہ کفواً
أجب یا عزرائیل بحق یا بدوح توکلت یا خدام ہذہ
الآیات سخر لی قلبہ فلاں بنت فلاں در عشق فلاں
بن فلاں بیقرار گردانید

ترکیب عمل =

اس عمل کو کوچندی جمعرات سے
ساعت مشتری میں شروع کریں اور ۱۱ دانہ سیاہ مرچ
پڑھ اسماء طالب و مطلوب نو روز تک پڑھیں
پہلے روز 13 دانہ دوسرے روز 14 تیسرے دن 15 چوتھے
روز 15 پانچویں روز 14 چھٹے روز 13 ساتویں روز 13 آٹھویں
روز 14 نویں روز 15 دانہ پر اکتالیس مرتبہ ہر دانہ پر پڑھنا
ہے یہ ایک چلہ ہو گیا اس طرح تین چلے کرنے ہیں
اب ان دانوں پر دیکھیں آگ میں جلائیں ایک چٹکی نمک اور
ایک دانہ مرچ ڈالتے رہیں لیکن پڑھائی اس ڈالنے کو آگ پکڑ دبا دیں

تسخیر جنات

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یا عطرائیل ویا سمحیوش بحق قل ھو اللہ احد یا اسرافیل
ویا قدوش اللہ الصمد یا طاطائیل ویا عدلوش لم یلد
ولم یولد یا رفتمائیل ویا لویوش بحق ولم یکن لہ کفواً
احد اقھر یا الحی القیوم لکن یا الرجوبیج وکشفا
للکربات الواقیات للکربات

ترکیب عمل =

اس عمل کو مرشد کامل یا صاحب
عمل کی اجازت سے بنا ہرگز ہرگز نہ کریں کوچندی
چاند سے پرہیز جلالی و جمالی سے ساتھ ایک بار ہر
دو ہفتہ ایک گوشہ مکان میں بیٹھا کر اس پر پڑھ
کر چالیس روز تک اول و آخر گیارہ مرتبہ درود
شریف درمیان میں چار ہزار مرتبہ پڑھائی برابر
کریں انشاء اللہ تسخیر جنات ہوگی

حاضراتِ مجرب

۹

أُحِبُّ یا مقائیلُ بحق اللہ الصمد

(831 مرتبہ)

ترکیبِ عمل:

ایک موم بتی لیکر جلائیں اور اُس
کی لو پر نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو 831 مرتبہ پڑھیں نظر
موم بتی کی لو پر جمی رہیں
اگر پہلی بار حاضرات تو میں نظر نہ آئیں تو وہیں بیٹھے
رہیں اور عمل کو دوبارہ پڑھیں
حتی کہ تین دفعہ عمل کیوں نہ پڑھنا پڑے لیکن حاضرات
شروع ہونگی جنات کا نزول شروع ہوجائے گا سلام
دعا کے بعد آپ جو بھی سوال کریں گے اُس کا
جواب کچھ دیر بعد ملے گا اس لیے بے صبرے نہ ہو
اس عمل میں ڈر خوف ہرگز نہ کریں
عمل کے اول و آخر ۱۱ مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں

وقتی حاضری

۱۰

ھَیطَل ھَیطَل سَطُوش سَلُوش
مَسلُوش مَسلُوشِ اُمقُرُ یا قُدامُ
ھٰذہ الاسماء

ترکیبِ عمل:

جب آپ کو کوئی ضروری
کام ہو جس کے حل کے لیے وقتی حاضری کی ضرورت
ہو تو ایک الگ کمرے میں اس عزیمت کو ۱۰۰۰
مرتبہ پڑھیں دوران عمل اچھی خوشبو جلائیں ایک
جن حاضر ہو گا
آپ اپنا کام اُس کو بتاؤ جب وہ کام کر کے
واپس آئے تو اس دعا کو سات مرتبہ پڑھیں
وہ واپس چلا جائے گا وہ دعا یہ ہے


اللّٰھم صلی اللہ علی النبی الکامل وعلی من یسئلہ
عامل

حاضری ملکہ حمراء

لمش لمشں فیروش فیروش شمھوش شمھوش
الشاخ الشاخ لمام لمام لحط لحط لمنوم لمنوم
اُفف ایتھا الملکہ حمرا بحق برب جبرائیل و میکائیل
واسرافیل و عزرائیل والسید میططرون الوحا العجل
الساعۃ

ترکیب عمل =

یہ سات دن کا عمل ہے اس میں ایک خوبصورت ترین
عورت حاضر ہوتی جو خدا جانے کتنے قبائل جنات
کی ملکہ ہے اس عمل کو ہر نماز کے بعد ۶۱ مرتبہ پڑھیں
دوران پڑھائی مقل ازرق لوبان سندرس اور معیہ سائلہ
کا بخور دیں نیز اس عمل کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھ کر
رات کو اپنے چہرے کے نیچے رکھ کر سو جائیں



أجب یا ملکہ حمرا

حاضری کھیتر پال

کھیتر پال دیال کھیتر پال میراں دا ملتان کالی دا کلمہ
علی دا میدان تینوں قسم ہے سلیمان بن داود علیہ السلام
کی میری مدد میں آ بابا کھیتر پال چلے منتر پھرے واچہ
دیکھاں بابا کھیتر پال تیری حاضری دا تماشہ

ترکیبِ عمل =

بابا کھیتر پال کی حاضری کا یہ عمل بہت
مجرب المجرب ہے اس عمل کی بدولت پہلے ہی دن
حاضری ہوتی ہے سب سے پہلے بابا کھیتر پال کی
بھینٹ دیں
ایک پیالہ مٹی کا لیکر اس میں ایک ٹکڑا بکرے کے
گوشت کا ایک گلاب کا پھول ۶ عدد لونگ،
۶ عدد الائچی رکھ کر کسی ویران جگہ رکھیں اور کہیں
یہ لو بابا کھیتر پال تمہاری بھینٹ اب میرے
پاس آؤ
عمل رات ۱۲ بجے چراغ جلا کر ۱۰۰۰ مرتبہ پڑھیں

تسخیر کمال جوگی

بھول بسنے بھول سب بھول بسنگ خوامہ فقر بیغم
زبسے لائی بہار ویکھال جوگی تیرا کمال

ترکیبِ عمل

یہ عمل بہت خاص ہے گیارہ دن کا عمل ہے
اس عمل میں کمال جوگی حاضر ہوتا ہے جو خود بہت بڑا عامل ہے اور جس کے پاس آتا ہے اُسے بہت زیادہ علم سکھاتا ہے
اس عمل کو روزانہ 506 مرتبہ پڑھیں بخور گوگل لوبان کا جلائیں

حاضری قربط

اِیلُ اِیلُ ھَیُولِ ھَیُولِ لَقَشُ لَقَشُ
شَقَاشُ شَقَاشُ مَلُوُدِ مَلُوُدِ یَاہَ یَاہَ
یَاھُوَہ یَاھُوَہ ھَلَکُ ھَلَکُ مَلَرِ
مَلَرِ کَارِشُ کَارِشُ اَجِبُ یَاقُربط
وَخبرنی عَلٰی مَا ارِید

ترکیبِ عمل

اس عزیمت کو ہر نماز کے بعد 9 بار پڑھیں پھر سو مرتبہ استغفار 100 مرتبہ درود شریف پھر 9 مرتبہ عزیمت پڑھیں
3 دن کا عمل ہے 3 دن کے بعد 9 بار عزیمت پڑھ کر السلام علیکم کہو جواب آئے گا آپ جو بھی سوال کرو گے اُس کا جواب ملے گا

حاضرات موم بتی

٨ ١١ ٢٢٢ ٤ ٩ ٧ ح ١١١ ٤ ٣١ ط ٣١

(لکھنا ہے)

١٨ ٩ ١٢ ٣ ٤ ١٧ ح ١١١ ٤ ٣١ ط ٣١

توکلُ اِیُّھا العون بِھذہ الشمعہ و اُحضر

مجلس ھذہ (پڑھنا ہے)

ترکیبِ عمل =

اس طلسم کو موم بتی پر لکھیں اور جلا دیں اور سامنے بیٹھ کر اس عزیمت کو پڑھیں موم بتی کے اندر سے آواز آئے گی آپ اُن سے ہر طرح کے سوال کر سکتے ہیں مکمل جواب ملے گا

حاضری وشوش

بَلبُاشِ بَلبُاشِ مَلیُاشِ مَلیُاشِ
عَزُاشِ عَزاشِ قَلمُوطِ قَلمُوطِ
ھُوشِ ھُوشِ دِہرشِ دِہرشِ
توکلُ اِیُّھا الخدام ھذہ الاسماء اُحضر و اُحضر و اُحضر

١٥ مرتبہ روزانہ

ترکیبِ عمل =

اس عمل کی کوئی مدت نہیں جس دن کان میں آواز آنا شروع ہو جائے عمل ختم اُس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اُس کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ کے کان میں بتا دیا جائے گا

حاضری جنات

١١٩٩١٩١ ااا ھ لا و اااا

ترکیبِ عمل = اس نقش کو ایک آئینہ کی پشت پر لکھیں اور سرہانے رکھ کر سو جائیں رات کو خواب میں جنات کا ایک گروہ آپ سے ملاقات کرے گا

مجرب المجرب عمل ہے

تسخیرِ جن

لَیلَطُوشِ لَمَیلَطُوشِ

١٠٠٠ مرتبہ

ترکیبِ عمل = تسخیرِ جن کا یہ عمل بہت پیارا ہے

اس عمل کو ہزار مرتبہ پڑھیں ہر سو مرتبہ کے بعد اس آیتِ مبارکہ کو پڑھیں

کَانُوا قَلِیلًا مِّنَ اللَّیلِ مَا یَهجَعُونَ

اس عمل سے دس دن میں جن حاضر ہوتا ہے قول و قرار کریں بہت ہی مجرب عمل ہے

حاضری موکل

یا لطیف یا خفی الطاف ادرکنی لطفک الخفی
الذی من لطفت بہ کفی الجلل الساعة الوحا

ترکیب عمل:

نوچندی جمعرات سے عمل کو
شروع کریں اور رات کو تہجد سے پہر دس ہزار
مرتبہ عمل پڑھیں بعد عشاء پہلے دو رکعت نفل
پڑھیں پھر اول آخر ۱۱ مرتبہ درود شریف اور درمیان
میں 10000 مرتبہ عمل پڑھیں
یہ عمل ۹ دن کا ہے موکل حاضر ہوگا اور ہر حکم بجا
لائے گا

مجرب المجرب عمل ہے

حاضری ملند جوگی - سلیمان کشمیری

اَلغیاثا سرالمیا اجیبونی واعینونی بحق الوفا
هنکبور ساشا شا باذن اللہ برحنی طلبی ملند جوگی
عواری عماری مشادی حاسر لولا سلیمان کشمیری
بحق احمد ادھم بحق توریت والانجیل وزبور
والفرقان مہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ترکیب عمل:

نوچندی جمعرات یا پیر کو شروع
کریں اول آخر ۱۱ مرتبہ درود شریف کے ساتھ
اس عمل ۴۱ دن میں روز 3048 مرتبہ پڑھیں
یعنی ان ایام میں سوا لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے
جب حاضری ہو جائے تو قول وقرار کریں جائز
مقاصد میں استعمال کریں ہر جائز کام کرے گا

حاضری خواجہ خضر علیہ السلام

خضر اسٹ خضر مست میں نام جیول شیرا
تو کام کر میرا حق
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

ترکیبِ عمل:

دریا کے کنارے بیٹھ کر اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف درمیان میں 1100 مرتبہ عمل پڑھیں رات کے وقت عمل کرنا ہے 41 دن کا عمل ہے

عمل کے درمیان یا آخر میں حضرت خضر علیہ السلام کی حاضری نصیب ہوگی بعد عمل جب بھی جب بھی چاہیں حاضر کریں 6 مرتبہ پڑھ کر پھونک ماریں پھر کچھ توقف کے بعد دوسری مرتبہ پھر شمال مرتبہ دم کریں حاضر ہوگی جو چاہیں سوال جواب کریں عمل کا صدقہ و ہدیہ گیارہ کلو گوشت کے مدرسے یا مسجد میں دیں

تسخیرِ ہمزاد

یا مظہر العجائب باذنِ اللہ ہمزاد حاضر شو

ترکیبِ عمل:

اس عمل کو حالت اعتکاف میں کیا جاتا ہے یعنی تین دن تین رات کے لیے ایک الگ تھلگ کمرے میں بند ہو جائیں اپنے سامنے دیوار میں 3 سے لے فٹ کا آئینہ لگائیں اس آئینے میں نظر جما کر اپنی بھنوؤں کے درمیان دیکھتے ہوئے عمل پڑھیں پہلی رات 3800 دوسری رات 3800 اور تیسرے دن 4100 مرتبہ پڑھیں جب حاضر ہو جائے تو قبول و قرار کر لیں یہ بہت طاقتور ہمزاد ہے ہر کام منٹوں میں کرتا ہے

حاضری بابا جی

یا علیؑ یا ولی یا کلی یا رسول اللہ غوث شری
دھونث بابے نول حاضر کر

ترکیب عمل:

اس عمل نوچندی منگل سے کرنا ہے ۱۵ رات کا عمل ہے عشاء کے بعد الگ کمرے میں ۱۱۰۰ مرتبہ پڑھنا ہے بابا جی حاضر ہونگے ان سے عہد لیں قول و قرار کریں دوبارہ حاضری کا طریقہ جانیں ہیں جس نام الف ہے ہر چاہیں حاضر کریں آنکھیں بند کر کے ۱۱ مرتبہ پڑھ کر دم کریں گے تو حاضری ہو جائے گی

تسخیر ہمزاد

لا الٰہ الا انت حب کر آسیب ہمزاد
مجھ سے بات کر جو میں کہوں وہ کر

ترکیب عمل:

الگ تعلق کمرے میں ایک بڑا آئینہ لگائیں اپنے عکس پر نگاہیں جمائیں اور عمل کو ۱۴۱۱ مرتبہ پڑھیں اول آخر ۱۱ مرتبہ درود شریف ۴۱ رات کا عمل ہے یہ ہمزاد مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بھی حاضر رہے گا ابتداء ماہ میں عمل کریں

آپ کا چہرہ کئی رنگ اور صورتیں بدلے گا آپ کو ڈرائے گا ڈرنا نہیں کامیابی ہو گی

حاضری جنات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حق اللہ محبوب اللہ سب کا والی تو اللہ میرے خضر
کی نور نبی کا تیغ علی کی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ ادرگرد یا علی ہو گرد میرے لطف مدد میری آپ کرو یا
محمد مصطفیٰ دلول صاف کرے حاضر کریں اس موکل
کو میرے پیر مرشد المدد یا غوث پاک دستگیر

ترکیب عمل:

اس عمل کو تین مرتبہ پڑھ کر آسیب
جن یا موکل زدہ پر دم کردیں اُس وقت حاضری ہوگی
مجرب المجرب عمل ہے

حاضری جن بچہ

آ محمد اس گھیرے وچ ہو لا کدہ محمد

ترکیب عمل:

کمرے کی دیوار پر ایک کیل
ٹھونک کر اس پر ایک تسبیح لٹکا دیں
تسبیح کے سامنے چار یا پانچ فٹ پر حصار لگا کر بیٹھیں
تسبیح کے گھیرے میں نظر رکھ کر اس عمل کو ۱۱۰۰ مرتبہ
۱۵ دن پڑھیں
گیارہ روز میں ایک جن بچہ حاضر ہوگا جو کہ حصار
کے پاس کھڑا ہوگا
کسی طرح کی بات نہ کریں البتہ جس دن عمل پورا
کریں قول و قرار کر لیں
ہر کام منٹوں میں کرے گا

حاضرات جنات

حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام آپ جن
پری کے بادشاہ ہیں
یا بَدُّوحُ حاضر شو یا بَدُّوحُ حاضر شو
یا بَدُّوحُ حاضر شو

ترکیبِ عمل:

اس عمل کو ایک وقت اور جگہ مقرر کر کے
بعد عشاء 500 مرتبہ پڑھیں 41 دن
دوران عمل حصار لازمی لگائیں۔ دوران عمل ہرگز
ڈر خوف نہ کھائیں
اکتالیسویں دن جنات کا گروہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا
اُن سے آپ سلیمان علیہ السلام کی قسم اٹھا عہد لے
لیں
ہر کام آن کی آن میں کریں گے

حاضری پری

کاھیا ھُما چاری مت جھت سواھا سماحا
علیکم طلیکم لکیدا کیدا دھلک اوسنحر او مقیم
حاضر شو حاضر شو بحق سلیمان بن داود
علیہ السلام

ترکیبِ عمل:

یہ عمل گیارہ دن کا ہے روزہ رکھنا
ضروری ہے افطاری کے وقت زیادہ روٹی نہ کھائیں
اور سحری کے وقت صرف پانی پی کر روزہ رکھنا ہے
دوران عمل حالتِ اعتکاف میں رہیں
بخور عنبر کا جلائیں حصار لازمی کریں مٹی کا چراغ
جلائیں
آخری روز ایک حسین و جمیل پری حاضر ہوگی اُس کو
دیکھ کر غلط خیال نہ لائیں ورنہ ہلاک ہوں گے قبول و قرار
کر لیں ہر کام سیکنڈوں میں کرے گی

حاضری ناخن

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۃ

اللہ الصمد قوان خضر مدد یعنی پیر ہار بہار ہو جی دستگیر اللہ کا اسم محمدؐ کا نور خواجہ کی تشبیہ حاضر کل حضور پنجتن موکلان الیاس ضرور حاضر ہو جی حاضر ہو جی

ترکیبِ عمل :

یہ عمل حاضری بہت ہی مجرب المجرب ہے اور عام طریقے سے حاضری ہوتی ہے بچے کے ناخن پر سیاہی لگا کر ۱۱ دفعہ دم کریں حاضری ہو گی

تسخیرِ ہمزاد

عزمت علیکم یا معشر الجن والانس والارواح بحق حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام احضروا احضروا یا قوم ہمزاد حاضر شود بحق یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین

ترکیبِ عمل :

تین سو نو دن ایک ہی وقت جگہ مقرر کر کے بعد عشاء 382 مرتبہ پڑھیں حاضر ہونے پر قول و قرار کر لیں

تسبیح حاضرات

فَاَرْسَلْنَا اِلَیْھَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَھَا بَشَرًا سَوِیًّا

ترکیب عمل:

اس عمل کو عروج ماہ کو جمعرات سے شروع کریں اور ۱۵ روز مسلسل اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف درمیان میں ۱۰۰ مرتبہ اس آیت کو پڑھیں جب کان میں آواز آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں حاضرات جاری ہو گئی ہیں تب اپنے مقصد کا تصور رکھتے ہوئے پڑھیں کان میں تشفی جواب ملے گا

جب کسی امر کے بارے میں آگاہی چاہتے ہوں تو چند مرتبہ پڑھیں جواب مل جائے گا انشاء اللہ

عمل حاضرات

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

یَا لَطِیْفُ اَلْطَفُ مِنْ کُلِّ لَطِیْفٍ یَا کَرِیْمُ اَکْرَمُ مِنْ کُلِّ کَرِیْمٍ یَا ھُوَ یَا ھُوَ یَا ھُوَ یَا مَنْ لَیْسَ لَہٗ اِلَّا ھُوَ یَا سَلَامُ اَسْلَمُ مِنْ کُلِّ سَلَامٍ

ترکیب عمل:

پہلے حاضرات کی سیاہی تیار کریں یا اس کو کالی پنسل سے لکھ کر پانی کے گلاس میں ڈال دیں اور عمل کو پڑھنا شروع کریں

بچے کو گلاس پر نظر رکھنے کا بولیں انشاء اللہ بچے کو گلاس میں موکلات نظر آئیں گے اور بچے کے کان میں ہر سوال کا جواب ملتا رہے گا

حاضرات موم بتی

آجب یا صقائیل بحق اللہ الصمد

ترکیب عمل:

باوضو پاک وصاف ہو کر ایک
عدد موم بتی جلا کر اول آخر درود شریف گیارہ
مرتبہ کے ساتھ موم بتی کی لو پر نظر جما کر اس عمل
کو 313 مرتبہ پڑھیں اگر پہلی بار حاضرات نظر آئیں
تو دوسری بار عمل پڑھیں حد تیسری دفعہ عمل میں حاضرات
کھل جائیں گی
حاضرات شہنشاہ جنات کی ہوگی ہرگز ڈر خوف نہ کھائیں
سلام دعا کے بعد اپنا سوال پوچھیں اور توقف رکھیں
تھوڑی دیر کے بعد جواب ملے گا

حاضرات عجیب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللھم صلی اللہ علی محمد سید المرسلین 11 مرتبہ

بسم اللہ فی سبیل اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 11 مرتبہ

اپنا نام جیب یا فیصل حمید 551 مرتبہ

ترکیب عمل:

حاضرات کا یہ عجیب و غریب
عمل بہت مجرب ہے بعد مغرب کے الگ کمرے
میں بخور جلا کر درود شریف پڑھ کر اپنے سینے
پر دم کریں
چند دن میں حاضرات جاری ہو جائیں گی

حاضراتِ چور

امیسا امیس چور کو منیش کا دیکھ نیا سیا یا کروز
آ ئے چور میں کا یا لاگ سے کورفی لاگ سے
وللیک لاگ

ترکیبِ عمل :

یہ عمل چور اور چوری کا سامان واپس حاصل کرنے کے لیے مجرب ہے
چوری کیا گیا مال بہت کم واپس ملتا ہے یا چور کا پتا نہیں چلتا
یہ عمل بہت مجرب ہے اس عمل سے چور آپ کو صاف نظر آتا ہے
اس عمل کو 88 مرتبہ پڑھنا ہے ایک سے تین دن کا عمل ہے

حاضراتِ غیبی

یا طمطیس ومحق یا لطیفُ

ترکیبِ عمل :

یہ حاضرات دلوں کے بھید جاننے اور لوگوں کے دل و دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے کے لیے بہت مجرب ہے
اس عمل کو ۱۰۰ مرتبہ روز ۴۱ دن پڑھیں چالیس روز میں حاضراتِ کشف آپ پر کھل جائیں گے جو بھی آپ کے پاس آئے گا اس کے دل و دماغ میں جو بھی بات ہوگی وہ آپ جان جائیں گے اس شخص نے کیا کھایا کیا پیا سب آپ اس کو بتادیں گے
مجرب المجرب عمل ہے

حاضراتِ مریض

یومئذٍ تُحدِّثُ اخبارھا

ترکیبِ عمل:

جس مریض کی مرض کا پتا نہ چلتا ہو
کہ اس کو کیا مرض ہے جنات جادو کا اثر ہے یا کوئی جسمانی
مرض ہے تو اس آیت مبارکہ کو ۱۱ مرتبہ پانی پر پڑھ کر
دم کریں اور مریض کو پینے کے لیے دیں اگر پانی کا ذائقہ کڑوا
ہو جاتا ہے تو تعویذ کا اثر ہے
اگر پانی میٹھا لگے تو جادو کا اثر ہے اگر پھیکا لگے تو جنات کا اثر ہے
اگر پانی کا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو مرض جسمانی ہے پانی مریض کو
تین گھونٹ پلانے ہیں آہستہ آہستہ کر کے

حاضراتِ آواز

أجب یا عنیائیل واقرونی فی اُذنی عن اخبار
الانس واحوالهم بحق من خلق ملکًا طائفًا
لاسماء الله وبحق اھیا شراھیا براھیا ادونای
اصباوت آل ~~شدای وبحق النور~~ صباؤت
صاتوله رب الصباوت آل شدای وبحق النور
الساطع والمصباح اللامع وبحق صاحب التاج
وبحق خاتم سلیمان بن داود علیه السلام الطاعة
لله واسمائه افعل ما امرتک به واتنی
فی منامی فعاهدنی علی قدر استطاعتی الساعة
الساعة العاجلة العاجلة الوحا الوحا

ترکیبِ عمل:

یہ عمل موکل عنیائیل کا ہے
۲۱ دن کا عمل ہے روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ جن
۶ مرتبہ اور بعد عشاء ۲۱ مرتبہ پڑھنا ہے ہر بار

سورہ ختم کر کے اس عزیمت کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ پڑھنا ہے
پڑھتے وقت دھونی اور لوبان اور جاوی کا دیں
اس عمل کے دوران پرہیز جلالی و جمالی لازمی رکھیں

تسخیرِ ہمزاد

الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضنہ الینا قبضا یسیرا ۝

ترکیبِ عمل:

ایک بڑی موم بتی جلا کر اس کی لاٹ کی لو پر نظر جما کر اس عمل کو اک مرتبہ روز پڑھیں ۲۱ دن کا عمل ہے
اگر عمل کے ۲۱ روز کے اندر ہمزاد حاضر نہ ہو تو عمل کو ۴۰ دن کریں
لازوال طاقت حاصل ہو گی قول و قرار کر لیں اور ترکیب دوبارہ حاضر کرنے کی بھی جان لیں

تسخیر جنات

وما خلقت یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان بحق سلیمان بن داود علیہ السلام

ترکیبِ عمل:

اگر تسخیر جنات کا شوق ہو یا حاضری کرنی ہو یا کسی پر جن مسلط کرنا ہو تو اس عمل کو ۱۱ مرتبہ باحصار پڑھیں جو بھی حاضر ہو گا وہ آپ سے کلام کرے گا

قول و قرار کر لیں

شہنشاہِ جنات یکتا نوش کی حاضری

عزیمت علیکم یا بادشاہ یکتا نوش دقیانوس واہب کرن وملیکہ انوش ہمہ حاضر شو بحق میراں محی الدین وبحق خاتم سلیمان بن داود علیہ السلام حاضر شو حاضر شو حاضر شو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

ترکیبِ عمل:

یہ عمل ۴۱ دن کا ہے یہ بہت جلالی و جمالی ہے ساتھ کریں عمل کو خوب اچھی طرح یاد کر کے کو جمعرات سے شروع کریں اگر ایک لفظ بھی غلط پڑھو گے تو حاضری نہ ہو گی یہ عمل شہنشاہ جنات کا ہے کوئی معمولی عمل نہیں اس لیے احتیاط کریں

عمل ۴۱ دن کا ہے روزانہ رات کو گیارہ سو مرتبہ پڑھیں دوران عمل حصار مضبوط کریں اور اطراف عامر بھی دل کو مضبوط رکھیں ڈر خوف نہ لائیں

تسخیر جمیلہ پری

الْقَوِیُّ الْقَادِرُ جمیلہ پری کو کر دو حاضر بحق لَا اِلٰہَ اِلَّا
اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْن

ترکیبِ عمل:

اس عمل کو الگ تھلگ کمرے میں باحصار ۲۱ دن روز ۱۰۰۰ مرتبہ پڑھنا ہے منہ آپ کا شمال کی جانب ہو

یہ عمل جلالی ہے اس لیے مکمل پرہیز رکھیں چند روز میں اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے کچھ دنوں میں پری انسانی صورت میں حاضر ہوگی عمل مکمل کر کے بات چیت کریں اور قول و قرار کر لیں اور دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی

تسخیر ہمزاد

یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ یَا الْخَیْرِ یَا مَقْصُوْدُ سِیْشَا اَحِیْب
یَا طَاطَا آئِیْل

ترکیبِ عمل:

ہر روز ناشتے اور کھانے سے دس منٹ پہلے تھوڑی سی ہلدی پیاز اور تھوڑی سی دار چینی کھائیں اس کے بعد ناشتہ یا کھانا کھائیں صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے لازمی کھائیں اور اس عمل کو ۴۱ یوم میں سوا لاکھ مرتبہ پڑھیں ہمزاد حاضر ہوگا قول و قرار مناسب اور سوچ سمجھ کر کریں آپ اس سے دنیا کا ہر کام لے سکتے ہیں دوران عمل ہر طرح کے گناہوں سے بچیں

تسخیر ہمزاد محقق

یا عالم الخفیات فی الامور الدنیا من ھو
علیٰ کل شیءٍ قدیر

ترکیب عمل:

یہ عمل تین دن کا ہے بدھ جمعرات
جمعہ نوچندی بدھ سے آدھی رات کے وقت عمل شروع
کریں جمعرات کا روزہ رکھیں
دوران عمل بخور عود عنبر کا دیں اور عمل کا ہرگز کسی سے
ذکر نہ کریں
عمل کو دن رات لگاتار ۱۱ ہزار پڑھنا ہے انشاء اللہ عجیب
و غریب مشاہدات ہونگے یہ ہمزاد محقق ہوگا نظر نہیں
آئے گا ہر کام آپ کے کنٹرول میں کرے گا
مجرب المجرب عمل ہے

حاضری موکل

الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم
[redacted] یا رؤف یا عطوف مالک یوم الدین
یا قادر یا مودود یا حکیم یا علیم

ترکیب عمل:

کسی بھی نوچندی پیر جمعرات جمعہ
کو شروع کریں احرام باندھیں ابلی سبزی کم نمک مرچ
کے ساتھ کھائیں منہ شمال کی جانب اور چہرہ دکھائے
کر عمل پڑھیں
تعداد عمل سات سو مرتبہ ستر دن ہے دوران عمل
کوئی آپ کو آواز دے یا نام لے جواب نہیں دینا
اگر کوئی سلام کرے تو جواب دل میں دیں پرہیز جلالی
جمالی رکھیں. عمل الگ جگہ مکان میں کریں ایک ہفتہ کے بعد
آپ کو دو پوری ہی منظر نظر آنا شروع ہونگے
حاضر ہوئے ہیں قول و قرار کر لیں

تسخیر جنات

عزمت علیکم برب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل عزرائیل
اصحنا الذی اجعل العرش
عزمت علیکم یا خدام سلیمان بن داؤد علیہ السلام و سخر
لہ الریاح والجن والشیاطین سرلقا

ترکیب عمل

اس عمل کو ٹھنڈی منزل سے شروع کریں
الگ تھلگ مکان میں احرام باندھ کر پڑھیں جلالی و جمالی
کرو اپنی پشت پر کوڑے ٹیکل کا مزہ آئے جلائیں اور
اپنے سامنے پر نظر رکھ کر دوسرے یا تیسرے دن استارے
ملنا شروع ہونگے
عمل کی تعداد 351 مرتبہ ہے گیارہ سے ۱۵ دن عمل پڑھنا ہے

حاضری جنات و پریاں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا
انا سمعنا قرانا عجبا یھدی الی الرشد فامنا بہ
ولن نشرک بربنا احدا ○

ترکیب عمل

یہ عمل بہت ہی مجرب اور
آزمودہ ہے ۴۰ روز کا عمل ہے
اس عمل کو روز ۱۰۰۰ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد 3125
مرتبہ
یا حطیطوناش عطلموت پڑھیں
اس عمل میں دو پریاں بشکل انسانی حاضر ہونگی
جو دونوں بہنیں ہونگی ان سے بالکل خوف
نہ کھائیں وہ آپ کو ڈرائیں گی بھی نہیں

عملِ حاضرات

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
عزمت علیکم واقسمت علیکم یا معشر الجن و برہان الجن یا ہرقلان یا قوقل قلان یا ام البیان بماری تماری وامداست آحقا شراحقا بحق حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام وبحق انجیل وبحق زبور وبحق توراۃ وبحق فرقان وبحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں موکل حاضر شو حاضر شو حاضر شو ظاہر شو ظاہر شو ظاہر شو

ترکیبِ عمل:

کو جمعرات سے شروع کریں روزانہ پانچ تسبیح ۴۰ دن پڑھیں پرہیز جلالی و جمالی کے ساتھ اس کے بعد 11X3 دفعہ جس پر پڑھ کر پھونکیں گے اس پر حاضرات ہونگی

ان سے قول و قرار کر لیں۔ وہ آپ کا کام کریں گی مگر جس کام کو منع کریں وہ دوبارہ ہرگز نہیں
دوران عمل پرہیز جلالی و جمالی رکھیں ہر قسم کا گوشت انڈہ گھی مچھلی دہی بدبودار اشیا پان سگریٹ وغیرہ لہسن پیاز سے پرہیز کریں لیکن عمل صرف بکرے گوشت کا پرہیز رکھیں
یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اس عمل سے جنات کی تسخیر ہوتی ہے لیکن سب جنات کی رکھیں

تسخیر سندھوتی

د من سر دین کر دین سفر دین لشٹ دین اکج اکج
پاسری سندھوتی ادم مت کھت سوا ھا جو یا بدہ

ترکیب عمل:

تسخیر و حاضری سندھوتی کا یہ عمل مجرب و آزمودہ ہے لوچیدی بدھ سے کریں
اس عمل کی پڑھائی ۱۵۵ مرتبہ روزانہ ہے تین سے سات دن کا عمل ہے دوران عمل بخور گوگل عود عنبر جلا دیں
اپنے سامنے ایک چراغ میں یہ عمل لکھ کر بتی بنا کر جلا کے تیل میں جلا دیں
وقت اور جگہ کی پابندی رکھیں عمل الگ کمرے میں کریں
ناغہ ہرگز نہ کریں
حاضر ہونے پر سوال سمجھ کر قول و قرار کر لیں اور دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی دریافت کر لیں

حاضری سید برہنہ

سید برہنہ بھولا بھالا ننگا پیچھے پلا نہ گھوڑا
سوا سیر کا گوشت کھائے اُسی گوبس کا دھاوا لگائے
مار مار کر نا جائے تا یا پلان پڑھتا جاوے میری چوکی
بیٹھا مار ملیچ کو لٹ پاوے پیلا گھوڑا پیلا زین
جس پر چڑھے برہنہ پیر عادل ستا بادل چپ پیر شیر
کو لاوے تک دُ بجیب سوا من کا لڈو کھاوے
سوا من کا پیوے پیالہ نا رہا وے سلادیا نرگی چاہے
جہاں تو وہاں اور کون حیران تو ایسا چڑھ ہیبت
سرور کا جنگ وار لگ سید شاہ دُا دے میرے
کام میں میل محبت کی جیو جیو لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ

ترکیب عمل:

۱۱ عدد کھوڑے کے پیڑے
۱۱ پھول خوشبودار ۱۱ چھوٹی الائچی ۱۱ لونگ
ایک شیشی عطر کی سامنے رکھ کر مکمل پرہیز

حاضرات سید عمر یائیل

ترکیب عمل و

حاضرات السید عمر یائیل۔ بہت مجرب ہیں اس حاضرات کے ذریعے آپ ہر سوال کا جواب اور مسئلے حل معلوم کر سکتے ہیں

اس حاضرات کی بدولت جن جادو چور کا پتا جادو کی معلومات مرض کی تشخیص وغیرہ پتا کر سکتے ہیں

اس عمل کی زکوۃ 7 دن کی ہے روز عمل 21 مرتبہ پڑھیں

طمشرح طمشرح طمشیم طمشیم طلیوش
طلیوش طمش طمش أجب أيها الملك العظيم
الجليل السيد عمر يائيل وانزل في منزل هذا
واكشف الحجاب ناظر هذا بحق اهيا شراهيا
اصباؤت آل شداي الوحا الوحا العجل العجل الساعة
الساعة

اس کے بعد دعا پڑھیں 7 مرتبہ

جلالی و جمالی کے ساتھ 21 روز 151 مرتبہ عمل پڑھیں عمل نوچندی جمعرات سے کریں قبل عمل غسل تازہ کریں الگ تھلگ کمرے میں وقت اور جگہ کی پابندی کرتے ہوئے عمل پڑھیں

دوران عمل لوبان جلاتے رہیں دوران پڑھائی توشہ اپنے سر پر رکھیں

دوران عمل کسی بات کا جواب نہیں دینا آخری روز سید یائیل حاضر ہونگے قول و قرار مناسب کر لیں حاضری کا طریقہ اور نشانی مانگ لیں

عمل کا ذکر کسی سے نہ کریں ورنہ رجعت ہو گی


حاضرات پانی

حبیب طیقں (۲) یکیرص (۲) قلاص (۲) کمروص (۲)
آرطاص (۲) کروصیم (۲) ھالحوص (۲) کارص (۲)
قفاص (۲) طمطاص (۲) کوقاص (۲) طلاص (۲)
جحص (۲) لص (۲) کولکوص (۲) مقباص (۲)
کاد (۲) طھص (۲) قہمکوش (۲)
جبار عالی متعالی اللہ ھو انزل یا تکلیائیل (۲)
انزل یا غلمطائیل (۲) انزل یا مطلطرون واحرقوا
الحجاب بینی وبینکم الوحا الوحا
العجل یا خدام ھذا الیوم وھذہ الساعۃ واورونی
ما اطلبہ منکم وافعلوا دمعقد بیان کریں (۲) کچھ
ماتلوتہ علیکم الوحا العجل الساعۃ (۲)

ترکیب عمل

ایک گلاس یا ایک مٹی
کا برتن لیکر اس میں پانی ڈال لیں

اس کے بعد جب حاضری کرنی ہے تو اس نقش کو
کاغذ پر یا زمین پر سیدھے ہاتھ پر لکھ کر درمیان میں دیکھے
ہو سب پر عمل



حاضری مؤرخ پری

چوشری چوشری بے آؤ مؤرخ پری کی اوم اوم
اوم سواہا سواہا سواہا پری پری پری سواہا سواہا سواہا
نمشکری نمشکری سواہا سواہا نرقیش مٹھون سواہا شری سواہا
100 مرتبہ

اس کے بعد 1300 مرتبہ

اوم شری اوم شری اوم شری بے آؤ مورخ پری
مورخ پری مورخ پری سواہا سواہا سواہا اوم سواہا
اوم سواہا اوم سواہا مورخ پری مورخ پری مورخ پری
نرقیش مٹھون سواہا چھبہ شری شری شری اوم اوم اوم اوم اوم اوم
اوم اوم سواہا سواہا سواہا اوم اوم اوم

ترکیبِ عمل:

مؤرخ پری کی حاضری
کا یہ عمل بہت مجرب ہے اور ایک رات کا ہے رات کو ایک
جگہ پر خوشبو جلا کر 1300 مرتبہ پڑھیں اور اس عمل 100 مرتبہ

اس نیت سے عمل کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اس
پانی پر دم کریں
اسی وقت پانی میں حاضرات شروع ہو جائیں گی
اگر پہلی بار میں نہ ہو تو دوبارہ عمل پڑھیں حتی کہ سرپاؤ
حاضرات نظر آئے پھر سوال جواب کریں اور بعد میں
رخصت کریں

حاضری ابی کلب

شَرلُودِ شرلُود بَنبُوخ بَنبُوخِ عاجُولِ عَاجُولِ
طمیولِ طمیولِ اَقبل یا ابو الکلب کق ان
کانت اِلاَّ صیحۃً واحدۃ فاذا ھم جمیع لّدینا محضرون

ترکیبِ عمل

یہ ابی الکلب کی حاضری کا مجرب وآزمودہ مکمل عمل ہے
میعادِ عمل تین رات ہے ہر رات ۱۰۰۰ مرتبہ پڑھیں
اس عمل کا خادم کالے کتے کی صورت میں حاضر ہو گا

حاضری جن بصورتِ سانپ

حفحقر الموشِ عَنُدُ وقطشِ فَصَبا فلطشِ فلطشِ
بجق قمھوشِ کمشمیاً

ترکیبِ عمل

یہ عمل حاضری جن زیادہ تر دشمن وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے
ایک کمرے میں موم بتی جلا کر احرامِ عاصی کریں
اور یہ منتر ۶۰ مرتبہ پڑھیں
آپ کو کمرے میں ایک سانپ نظر آئے گا اس
کو کہیں فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اس کو ذلیل وخوار کر کہ وہ میرے پاس آئے

حاضری خادم سورۃ اخلاص ۶۱

بَجُوتَرِ لَوُشْ قُوشِ نَفَغْ آتی أحب
یاسید آتی بحق قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد

ترکیبِ عمل :

اس ایک عمل حاضری سے آپ ہر قسم کے کام کر سکتے ہیں جلب و محبت تسخیر خلق و محبوب ارسال ہاتف مرض کا علاج ہلاکتِ ظالم جن جادو کا علاج بہت ہی مجرب عمل ہے۔

نوچندی جمعرات سے شروع ہر جلالی جمالی سے دس دن تک کریں ہر نماز کے بعد ۹۰۰ مرتبہ بعد از عشاء ۹۲ مرتبہ پڑھیں

حاضرات ارواح 62

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَاللہُ وملائیکۃ
والرُّوح

ترکیبِ عمل :

اس عمل کو روزانہ ۱۲۲ کو بار روز ۱۴۱ رات عمل پڑھیں زکوٰۃ مکمل ہوگی پھر قاعدے کے مطابق جب بھی ہر حاضری کریں مطلب حاصل ہوگا

ہر حاضری سے پہلے سوا کلو گوشت کا صدقہ بچوں میں تقسیم کردیں

تسخیرِ ہمزاد

عزمت علیکم واقسمت علیکم برب جبرائیل ومیکائیل
واسرافیل وعزرائیل اے ہمزاد رجوع شود بحق
یا بدوح حاضر شود حاضر شود حاضر شود العجل العجل
العجل

ترکیبِ عمل:

۴۱ رات ۶۰۰ مرتبہ اول آخر
۱۱ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں
اپنی پشت پر چراغ جلائیں اور سایہ پر نظر رکھتے ہوئے
عمل کو پڑھیں
انشاء اللہ ہمزاد مسخر ہوگا
اس عمل میں ڈر وخوف قطعی نہ رکھیں حصار کرکے
عمل کریں

مسخراتِ ارواح

اللّٰھم یا کریمُ أجِبُ یا اسرافیلُ

ترکیبِ عمل:

ایک وقت اور جگہ مقرر
کرکے اس عمل کو سوا لاکھ مرتبہ پڑھیں
۲۱ یا ۴۱ دن میں اول آخر ۱۱ مرتبہ درود شریف
لازمی ہے

آپ کے دروازے پر ارواح مقدسہ کے ساتھ
ساتھ خلقت کا ہجوم بھی لگ جائے گا لوگ
آپ کے دیدار کو ترسیں گے

حاضری حقہ والا بابا

اِک پیاں اِک ساڈاں اِک دا دھرنا بناواں
جے بابا نوں آویں حقہ دھر دکھاواں جے آویں
تینوں قسم محی الدین دستگیر جیلانی دی

ترکیبِ عمل:

یہ عمل ۱۹ رات کا ہے ہر رات
ویران جگہ پر حصار کر کے اُس میں اچھی طرح لیپ
لگا کر بیٹھیں
حصار کے باہر ایک حقہ روز تازہ تیار کر کے جس میں اعلیٰ
قسم کا تمباکو استعمال ہو وہ ٹکا دیں عمل حصار میں بیٹھ کر
۶۷ مرتبہ پڑھیں
جس دن حقے سے گڑگڑ آنا شروع ہو جائے اُس دن
قبول و قرار کر لیں

حاضری خاکی شاہ

نیلی گھوڑی سبز پلان
مرشد آؤ خاکی شاہ جوان
ہتھ وچ ڈنڈا بغل میں قرآن
ملک کردا اے لکھ سلام
حاضر ہو جا حاضر ہو جا حاضر ہو جا

ترکیبِ عمل:

یہ عمل حاضری خاکی شاہ
۴۱ روز کا ہے پرہیز جلالی کے ساتھ
اپنی روٹی کھانا خود پکا کر کھانی ہے عمل کو رات
عشاء کے بعد ۱۱۰۰ مرتبہ پڑھیں
کمرے میں ۲ چراغ لازمی جلائیں ہر گیارھویں دن
۵ سیر میٹھے چاول پکا کر بچوں میں بانٹیں ۴۱ روز
میں خاکی شاہ حاضر ہو گا آپ ان سے ایک خادم کی
درخواست کریں وہ آپ کو مل جائے گا جو ہر کام
کرے گا

تسخیرِ موکل

یا مُتُو یا نواز حاضر شو

ترکیبِ عمل:

یہ تسخیر و حاضر موکل کا ایک مختصر
مگر جامع عمل ہے اور مجرب المجرب بھی
اس عمل کو ۱۱ دن روزانہ رات کو ۱۱۰۰ مرتبہ پڑھیں ۱۱ رات
میں موکل کی حاضری ہوگی
ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا ہر حکم مانے گا گھر کی حفاظت
کرے گا آپ کو گناہ کی جانب نہ جانے دے گا
رزق و دولت کے انبار لگا دے گا
آپ کے کام کاروبار کی طرف بے شمار گاہک لائے گا تسخیر
خلق بھی کرے گا آپ کے لیے

تسخیرِ ہمزاد

لا الہ الا انت حب کر آ میرے ہمزاد
مجھ سے بات کر جو میں کہوں وہ تو کر

ترکیبِ عمل:

الگ تھلگ کمرے میں
ایک قد آدم آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر
دونوں پلکوں کے درمیان نظر جما کر اول آخر
گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ ۱۱۱۱ مرتبہ عمل
پڑھیں ۱۱ رات میں مسخر ہوگا
آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی قبر پر
ڈیوٹی دے گا
مجرب المجرب عمل ہے

تسخیرِ حاضری مائی سیندھو

کیا ونجاری ونج چٹ چاولاں دا گن بھرے
سپے ہتھ برچھی بھرے بریوں کا شمار کرے
اڑھائی گھڑی وچ کم شتاب کرے بھرے
منتر چلے وامی ویکھاں مائی سیندھو تیری
حاضری کا تماشہ

ترکیبِ عمل:

نوچندی آتے ہی عمل شروع کریں
۱۵ ویں چاند کو ختم کریں
ایک وقت ایک جگہ مصلٰی وقت ایک رکھیں
حصار لگا کر بیٹھیں جب مائی سیندھو حاضر ہو جائے
تو قول و قرار اور دوبارہ حاضری کا طریقہ دریافت کر لیں
جو کام کہو گے وہ کرے گی

تسخیرِ پریاں

یا نائم الذمالُ یا نسیمَ النساءُ یا نعیمُ النساءُ
یا بسیمَ النساءُ اُحضرا فی الطرفتہ العین

ترکیبِ عمل:

اس عمل میں تین پریاں حاضر ہوتی ہیں جو الگ الگ قبائل سے ہیں مگر آپس میں دوست ہیں
ہر ایک الگ طاقت کی مالک ہیں یہ عامل سے بے حد پیار کرتی ہیں عامل کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں
یہ عمل ۱۵ دن کا ہے ہر سات دن میں ایک پری حاضر ہوتی ہے
عمل الگ کمرے میں باحصار ۱۵ دن ۱۵۱۵ مرتبہ روزانہ پڑھیں

تسخیر حسن پری

سرموشا سرموشا تر ذوشا تر ذوشا
آشتر نوم نوم نوم

ترکیب عمل:

یہ عمل ایک خوبصورت اور
حسین و جمیل پری کی حاضری کا ہے یہ پری بہت
خوبصورت لباس میں حاضر ہوتی ہے ایک ہاتھ میں
سرخ جام پکڑا ہوتا ہے ہمیشہ خوشبو میں لپٹی رہتی
ہے عامل کو طرح طرح کے تحائف دیتی ہے
دور دراز کے مقامات کی سیر کراتی ہے شہر
جسمانی خواہش بھی پوری کرتی ہے
یہ عمل 7 دن کا ہے اندھیرے کمرے میں عود عنبر جلا
کر 313 مرتبہ عمل پڑھیں
سات دن میں حاضر ہو گی قول و قرار کر لیں

تسخیر حسینہ پری

عزمت واقسمت یا ذوذرلوش احضری
فی ھذہ الوقت الیوم الساعۃ الوحا
نومومش نومومش نومومش

ترکیب عمل:

تسخیر و حاضری حسینہ پری
کا یہ عمل بہت مجرب ہے آسان ترین ہے اس عمل
کو 35 سال سے کم عمر افراد ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ
زیادہ عمر کے مردوں کو پسند نہیں کرتی عامل کی ہر خواہش
پوری کرتی ہے
چاند گرہن میں صاف پانی میں دیکھتے ہوئے عمل پڑھیں
جب تک گرہن رہے عمل پڑھتے رہیں
گرہن ختم ہوتے ہی حاضر ہو گی قول و قرار کر لیں

تسخیر علقا پری

علقا گر سے چلی ہے پھولوں کی کلی
میرے سامنے آکر ہو گئی کھڑی اے سلیمان
بن داؤد کی پری دُہائی ہے تجھے ملکہ
صبا کی

ترکیبِ عمل:

نوچندی جمعرات بعد عشاء عمل
شروع کریں اور 1313 مرتبہ پڑھیں 7 سے 21 دن
میں تسخیر ہوگی دوران عمل اپنے سامنے 5 چھوہارے
15 الائچی 5 گلاب کے پھول ایک چنبیلی یا موتیے کے
5 عدد گلاب جامن سبز کپڑے پر رکھ کر عمل پڑھیں
صبح سویرے یہ توشہ دریا میں ڈال دیں
توشہ ہر روز رکھنا ہے

تسخیر ملکۃ النساء پری

عزمتُ واقسمتُ علیکم یا اداءِ ناءِ ذُوشِ
اُحضری الحق یا باقیُ

ترکیبِ عمل:

یہ پری قبیلہ ذوش کی ملکہ ہے
اس قبیلہ کی کوئی پری ملکہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی
یہ خود بے حد حسین ہے عامل کے ہر حکم کو بجا لاتی ہے
روحانی و جسمانی ہر خواہش پوری کرتی ہے مال و دولت
لاکر دیتی ہے
سات دن روزہ رکھیں ساتویں روز نوچندی جمعرات ہو
پھر بعد نماز عشاء 7853 مرتبہ عمل پڑھ لیں
ایک ہی رات کا عمل ہے

تسخیر سحر گلاب (مکمل)

عزمت و اقسمت علیکم یا سحر گلاب حاضر شو حاضر شو
حاضر شو بحق یا حی یا قیوم بحق عزت سلیمان بن داود
و بحق شاہ بکبانوش سحر گلاب حاضر شو حاضر شو حاضر شو

ترکیب عمل =

تسخیر سحر گلاب پری کا یہ مکمل اور اصل عمل ہے 5 گلاب کے پھول 7 رنگ کی مٹھائی عطر چنبیلی اگربتی اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو 1008 مرتبہ 41 دن پڑھیں جب حاضر ہو جائے تو قول و قرار کرکے کوشش اس کو دے دیں
دوران عمل انڈہ گوشت دودھ مچھلی وغیرہ کا پرہیز رکھیں

وقتی حاضری

ھیطل ھیطل سطوش سطوش سطوش سطوش
احضر یا خدام ھذہ الاسماء

ترکیب عمل :

جب کوئی ضروری اور فوری کام ہو تو اس وقتی حاضری کے ذریعے جن کو حاضر کر سکتے ہیں الگ کمرے میں بیٹھ کر اس عزیمت کو 1000 مرتبہ پڑھیں اچھی خوشبو لگائیں بھی اور جلائیں بھی
ایک جن حاضر ہوگا اس کو اپنا کام بتائیں جب وہ کام کر کے واپس آئے تو اس الفاظ کو سات مرتبہ پڑھیں وہ واپس چلا جائے گا

اللھم صل اللہ النبی الکامل و علی من بینہ عامل

حاضری جنات گروہ در گروہ

لاملس لمسطا سطا لمک لما لموطس لموطموطمسا
لمسو لمطلکیا کیکا لمو لمساطس لمیا

ترکیبِ عمل:

یہ عمل مجھے میرے ایک دوست کامران خٹک صاحب سے ملا تھا اُن کی خاندانی بیاض میں تھا

اس عمل سے دنیا کا ہر کام آپ کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ جب سورج نکل رہا ہو اُس وقت سورج کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے
آسمان سے آپ چھوٹے چھوٹے روشنی کے ذرات اترتے دیکھیں گے جب ایسا ہو تو اپنا کام کہیں موکل کر دیں گے

تسخیر ارواح و موکلات

اللّٰھم انت القادر وانا المقدور فمن ید المقدور الا القادر یارب یارب یارب قل ھو اللہ احد یا جبرائیل اللہ الصمد یا میکائیل لم یلد ولم یولد یا اسرافیل ولم یکن لہ کفوا احد یا عزرائیل سخرلی کذا وکذا

ترکیبِ عمل:

یہ عمل سورہ اخلاص کا ہے اس عمل سے آپ تسخیر ارواح تسخیر موکلات تسخیر خلق تسخیر محبوب ہر قسم کی تسخیر کر سکتے ہیں وہ بھی چند دن میں اس عمل کو رات کے وقت بائیس مرتبہ پڑھیں تسخیر خلق اور تسخیر مطلوب کے لیے بوقتِ زوال پڑھیں اگر عمل کو ۴۰ دن میں سوا لاکھ مرتبہ پڑھ لیں تو آپ تسخیر کے بادشاہ ہوں گے

تسخیرِ روحانیت

اللہ الصمد اُحبُ یا اسرافیل یا مُدفائیل
بحق یا موکلان

ترکیبِ عمل:

یہ عمل بہت مجرب المجرب ہے اس عمل کو اگر 5 الف مرتبہ پڑھیں تو مقام ولایت حاصل ہوگا تسخیر روحانیت کے لیے ۱۱۰۰ مرتبہ روز پڑھیں ارواح و موکلات اور روحانیات کا مشاہدہ و دیدار ہوگا اس عمل کے بعد کسی اور عمل کی اجازت شدہ ضرورت نہ ہوگی

تسخیرِ موکلین نوری

تن موکلوں من موکلوں موکلوں سارے شہر
یہ موکلین ہیں حضرت علی کی مدد پیر دستگیر

ترکیبِ عمل:

یہ عمل موکلی تسخیر کا مجرب المجرب عمل ہے
اس موکلی کی تسخیر کے بعد عامل حب و تسخیر کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے
اس عمل کو ۲۱ دن روزانہ 324 مرتبہ پڑھیں اول آخر ۱۱ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں

حاضری ناخن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ الصمد فواج حق مدد پینچ بھیج بار کرو بار کرو جی دستگیر
اللہ کا اسم محمد کا نور خواجہ کی تسبیح حاضر کل صفور بھیجو موکل
لیاؤ موکل حاضر کرو جی حاضر کرو جی حاضر کرو جی

ترکیب عمل:

یہ عمل حاضری بہت مجرب ہے
عام طریقہ حاضری سے کریں ناخن پر سیاہی لگا کر ۱۱ مرتبہ دم کریں حاضرات کھل جائیں گے

حاضری مجرب ذاتی طریقہ

یا عزیز یا مطیع

ترکیبِ عمل:

یہ طریقہ حاضری میرا ذاتی اور دوسروں کا مجرب ہے اس عمل کے لیے ایک نابالغ بچی یا بچے کی آنکھیں بند کروا کر گیارہ مرتبہ عمل پڑھ کر دم کریں پھر تھوڑی دیر بعد گیارہ مرتبہ اسی طرح دم کریں
جس بھی بزرگ ولی پیغمبر یا سفلی طاقت کو حاضر کرنا چاہیں مجلس میں حاضر ہوتی ہے اور جواب بھی دیتے ہیں بعد حاضری کے انہیں سلام دعا کے بعد لازمی رخصت کر دیں

حاضری موکل

أجب یا بدوحائیل یا مسفائیل یا تحفائیل
آن تقتفاء حاجتی کن فیکون

ترکیبِ عمل:

حاضری موکل کا یہ عمل مجرب المجرب ہے
اس عمل سے آپ حاضری مطلوب بھی کر سکتے ہیں
بروز جمعہ توحیدی ساعت ذہرہ میں باحصار عمل شروع کریں
تین سے سات دن تک اول آخر گیارہ مرتبہ درود
شریف درمیان میں ۱۱۰۰ مرتبہ عمل پڑھیں موکل حاضر
ہوگا اور ستم بھی
عمل جلالی و جمالی مکمل پرہیز کے ساتھ مکمل خلوت
اور حالتِ احرام میں کریں

حاضری پری

بسم اللہ شحفیث محبث وصث


ترکیبِ عمل:

یہ ایک آسان ترین اور مجرب
المجرب عمل ہے عالم خواب میں پری حاضر ہوگی اور
گفتگو بھی کرے گی
عمل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تین دن ترکِ حیوانات کر لیں
اور جب تک پری کا نظارہ نہ ہو ترکِ حیوانات
جاری رکھیں
ایک سے تین حد سات دن کا عمل ہے اس عمل کو
اپنی ہتھیلی پر لکھ کر سو جائیں اگلے عمل کرنے میں
کوئی پڑھائی نہیں ہے

حاضرات کا آئینہ

حاضرات کا یہ عمل مصری عامل و مصنف جناب استاد عبدالفتاح الطوخی السید کا ہے اِس آئینے حاضرات سے عامل خود ارواح کا مشاہدہ اور اُن سے بات چیت کر سکتا ہے

ایک نیا شیشہ بازار سے لیکر اس کی پشت پر اس نقش کو لکھیں لوحِ محفوظ پر نقش آپ نے تازہ غسل کیا ہو لوبان اور بسو لگا دھونی جلا تے رہیں



اِس کے بعد اس آیت کو لکھ کر اپنی پیشانی پر چپکا لیں

وکذلک نری ابراہیم ملکوت السموٰت والارض ولیکون من الموقنین ۝ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید ۝

سورۃ الانعام آیت 75

سورۃ ق آیت 22

پھر یہ عزیمت تین تین مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے اور اس آئینے پر دم کریں آئینے میں خلا پیدا ہو جائے گا اس میں ایک انسان نظر آئے گا اور اشارہ میں آپ کے سلام کا جواب دے گا جب آئینے میں کوئی نظر آئے تو آپ اُس سے کہیں علیک السلام ومنک وفیک پھر اپنے سوال و جواب کریں تسلی بخش جواب ملے گا

عزیمت عمل یہ ہے

امسمت علیکم بکام قرموق حطوق مردوق
ودود شکور ابرواق عقاقل ھیدوس انزلوا
یا معاشر الارواح الروحانیہ انزل اعمش انزل
شموریش والشفوالی الحجاب بینی وبینکم حتی
اراکم لعینی واکلم بلسانی واسألکم ارید منکم لقد
کنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطائک
فبصرک الیوم حدید ۝ وکذلک نری ابراھیم ملکوت
السموت والارض ولیکون من الموقنین ۝ انہ من
سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتونی مسلمین
الوحا العجل الساعۃ

جب حاضرات مکمل ہو جائیں اور الصراف کرنا
ہو تو آئندہ پر یہ عمل پڑھ کر دم کر دیں حاضرات
واپس ہوں گی

لبخلندوم قندوم طرلیثا لفرب لبسو

لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من
قبلہ العذاب الفرق احیا الروح الروحانیۃ
بارک اللہ فیک وعلیک

یقین مانیں کہ یہ اتنا مجرب المجرب عمل ہے کہ
اس میں حاضرات اسے ہوتے ہیں جیسے آپ کے
سامنے بیٹھے ہوں
مکمل یقین اور اعتماد سے عمل کریں انشاء اللہ
کامیاب ہوں گے

۸۹ حاضراتِ آئینہ

یسین یسین یسین بحرمت مشکل کشا یسین
تقصیران الجن والانس مسخر شو

ترکیبِ عمل:

اس عمل کی زکوٰۃ نہیں ہے روزانہ ایک مرتبہ سورۃ یسین شریف لازمی پڑھنی ہے کبھی ناغہ نہ کریں اس سے عمل جاری رہے گا جب ضرورت ہو تو پہلے اور آئینے پر تین تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں حاضرات کا نزول شروع ہو جائے گا ہر طرح کے سوالات کے جواب مکمل اور درست ملیں گے

۹۰ حاضری کحلہ بنت برمان

ھمیش بھمیش لھراش ھاریش
ھمرلیش برداش طاریش صیحطروش
اقبلی یا کا شیح یا کحلہ بنت برمان بحق
شرداش مرداش سداش انہ لقسم
لو تعلمون عظیم

ترکیبِ عمل:

اس عمل کو نوچندی بدھ سے شروع کریں بعد عشاء اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اس عمل کو مدور لکھی دائرے کے اندر لکھیں اور عمل کو ۲۱ مرتبہ پڑھیں بخور لوبان مقل ازرق سندروس تینک کا جلائیں کحلہ بنت برمان سنہری بالوں والی نہایت خوبصورت عورت کے روپ میں حاضر ہو گی اور آپ سے ہمبستری کی خواہش مند ہو گی بعد ہمبستری وہ آپ کے ہر کام کرے گی مجرب عمل ہے

۹۱ تسخیر ہامی الجنات (صحابی رسول ﷺ جن)

اُقسمتُ علیکم یا شمھورش ہامی الجنان بالقرآن یا شلُ بحرمت یا ہمیشُ اُصفرُ اُصفرُ اُحمرُ اُحمرُ العجل الساعۃ الوحا

ترکیب عمل:

عمل نوچندی جمعرات سے کریں پاک وصاف لباس پہن کر سفید رنگ کا جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ رخ عمل کو ۱۱۱۵ گیارہ سو پندرہ مرتبہ پڑھیں عمل سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہے یا روزانہ رات کو ۱۱۱۵ مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں ۱۵ دن تک ان شاء اللہ ہامی شمھورش جن حاضر ہوگا قول و قرار کر لیں عہد لیں اور دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لیں ہمیشہ کے لیے ہر کام میں معاونت و مدد کرے گا یہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور آپ ﷺ سے کلام و مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہے۔

حاضری بادشاہ موکلات ۹۲

۱) واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا (۷ مرتبہ)

۲) ہرشِ ہرشِ ۱۰۰۰ مرتبہ ہر نماز کے بعد

ترکیب عمل:

اس عمل کی ریاضت تین دن کی ہے تین دن روزہ رکھیں خلوت میں ہر نماز کے بعد ہرشِ ہرشِ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں چوتھے دن لاتعداد پڑھیں آپ کے سامنے موکلات کا بادشاہ حاضر ہوگا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اس سے خوف نہ کھائیں وہ آپ سے حاجت پوچھے گا جواب دینے کے بعد آپ ہرشِ ہرشِ لاتعداد پڑھتے جائیں آپ کے ہاتھ میں 130 انچ لمبا سبز کاغذ ہو جس پر اوپر والی عزیمت آیت ۷ بار لکھی ہو وہ چلا جائے گا جب وہ واپس آئے تو اس کو وہ پرچہ دیں وہ اس پر مہر لگا دے گا یہ مہر اس کا عہد ہے ہر کام میں معاونت کرے گا

تسخیر ریحان خادم سورۃ فاتحہ

تریش لیطیش مشاش کشارش الماش
قطموش الھت علوش مقلوش أجب
یا ریحان وافعل لی (کذا وکذا) بحق الفاتحۃ الشریفۃ أم
القرآن وبحق الملک الاحد بناصیتک أجب بارک
اللہ فیک وعلیک بحق القہار الجبار الشکور الثابت
الظہیر الخبیر الزکی الوحا العجل الساعۃ

ترکیب عمل:

ریحان سورۃ فاتحہ کا خادم موکل ہے
اعمال حب میں عامل کا معاون رہتا ہے اس عمل کو خلوت میں
ترک حیوانات کے ساتھ احرامی لباس پہن کر عروج ماہ
اتوار یا جمعرات سے کرے ۱۱ دن ہر روز سورۃ فاتحہ بمعہ
بسم اللہ اور ہر دفعہ کے بعد اوپر والا عمل پڑھے ۱۰۰۰ مرتبہ روز
ریحان حاضر اور مسخر ہو گا
مجرب المجرب عمل ہے

تسخیر موکلات سورۃ مزمل

اس عظیم البرکت اور مجرب المجرب عمل کے لیے سب سے
ضروری بات ہے کہ عامل صابر اور یقین پختہ رکھتا ہو
الگ تھلگ کمرہ میں یا کسی خلوت کی جگہ پاک
وصاف ہو خود روز تازہ غسل وضو کرے دوران عمل
مکمل پرہیز جلالی وجمالی اور اعتکاف کر لیں
عمل کی مدت ۴۰ یوم ہے پیر شریف کے دن غسل لازمی
ہے طاہر و صاف ہو کر رات کے آخری حصہ میں عمل
شروع کریں

روزانہ اول آخر تین سو تین (303) مرتبہ درود شریف درمیان
میں ۴۰ مرتبہ سورۃ مزمل شریف پورا بسم اللہ کے ساتھ
پڑھیں بالکل حاضری موکلات کی شب سے
۴۰ یوم کے اندر اندر کسی بھی دن چار آدمی نورانی
چہرے مگر ان کے چہروں پر سیاہ لبادے ہوں گے
اس میں بھی چمک رہے ہوں گے عامل ادب سے
سلام کرے

اِن موکلات کی پہچان یہ ہے کہ یہ چار سے کبھی کم نہیں
ہوتے روشن چہرے سیاہ پوش
جب حاضر ہو جائیں تو دوبارہ حاضری کا طریقہ دریافت
کر لیں

یہ موکل ہر قسم کے سوال کے جواب دیتے ہیں عامل کو دفینہ
علم کیمیا سیمیا ہیمیا وغیرہ بھی سکھاتے ہیں
اگر عامل چاہے تو دو دن بھی مقرر کر دیتے ہیں اگر خدانخواستہ
کبھی عمل مکمل نہ ہو یا کمزور رہ جائے تو یہ موکلات خواب
میں ظاہر ہوتے ہیں
عامل کو چاہیے دوران ریاضت جو خواب یا مشاہدے دیکھے
اُن کو لکھتا جائے

یہ عمل صرف اُن لوگوں کے لیے ہے جو تسخیر موکلات وارواح
کی ریاضت صبر اور ہمت سے کر سکتے ہیں
مجرب المجرب طریقہ ہے یہ

حاضرات مسلسل کرنا

۱) طرش (۲) ہارش (۲) طاروش (۲)
المومش (۲) المامش (۲) طمیش
پڑھا جائے

۲) طرش طاروش طارش المومش المامش
طمیش اجیبوا یا خدام ھذہٖ الاسماء والبسوا
الجسم وارموھا الی الارض حتی تخاطبنی بما
اُرید جمیع الاحوال من مرض وسرقۃ و دفین
وغائب

(دائمی ہے پڑھنی ہے)

3) سورۃ الزلزلۃ ا لھاک عمل

ترکیب عمل

حاضرات کا یہ مجرب المجرب
اور عجیب و غریب عمل اپنی مثال آپ ہے
اس حاضرات میں ہر سوال ہر مرض ...

کہ گھر کتنا گم شدہ چوری یافتہ سب معاملات کا
پتہ لگایا جاتا ہے سحر جادو جنات کا علاج والزام ختم ہوتا ہے
اس عمل کے ذریعے آپ کسی بھی بچہ بوڑھا مرد عورت
پر حاضرات مسلط کر سکتے ہیں
اس عمل کی ریاضت کے دو طریقے ہیں اول طریقہ
6 یوم کا ہے بعد عشاء پڑھیں پہلی رات 509 دوسری 510
تیسری 505 چوتھی 367 پانچویں 362 اور چھٹی
رات کو 324 مرتبہ پڑھیں
عمل جاری ہوگا

دوسرا طریقہ ان اسماء کو روزانہ 889 مرتبہ 9 دن
تک پڑھیں پھر جب حاضرات کرنی ہو تو معمول
کو وضو کرا کر اس کے دائیں ہاتھ پر دو بار والا عمل پڑھیں
اور 9 مرتبہ پڑھ کر دم کریں تین مرتبہ 3x9 دم
کرنا ہے مرد عورت پانی سو زمین پر گر جاتے ہیں خدام
اس کے جسم پر مسلط ہو جائیں گے سوال جواب کرے
سورۃ زلزال پڑھ کر انزال کریں یا الفاظ کریں
مجرب العمل ہے

حاضراتِ کشف

طیکش شمل اخ کمشش علمتش
شملمن اجب یا خدام حقاً الاسماء
واخبرونی فی اذنی فیما ثر العالم
واخبارہم الوحا العجل الساعۃ

ترکیبِ عمل

یہ عمل مجرب اور صاحب کشف و کمال اور روشن ضمیری کا بہترین عمل ہے اس عمل سے عامل آنے والے شخص اور کسی بھی انسان کے دل و دماغ کی ہر بات جان لیتا ہے اس عمل کے لیے سات دن روزہ رکھیں اور روزانہ 1000 مرتبہ عمل پڑھیں انشاءاللہ سات دن میں کان میں آواز آنا شروع ہو جائے گی اور آپ روشن ضمیری اور کشف میں باکمال ہونگے

تسخیرِ روح

لَسُکَ فی الوہا فی الکما لَسُکَ فی الوہا
فی الکما بحق یا ......

ترکیبِ عمل:

اپنی ہی روح کی تسخیر و حاضری
کا یہ ایک نایاب اور مجرب المجرب عمل ہے
اس عمل کو ہمیشہ استاد کامل اور ایک معاون کے ساتھ
کریں ورنہ آپ اپنی روح کو اپنے جسم میں واپس
داخل نہیں کر سکتے
عمل کو اجازت لیکر کریں ورنہ یا عمل ناکام ہوگا یا
رجعت ہو گی
عروج ماہ قمری ہفتہ کے روز منزل ہقعہ سماک
اکلیل یا رشا ہو تو اپنے نام کے اعداد مع والدہ
لیں بیٹا یا بیٹی کے اعداد نہیں ہوں گے
کل اعداد سے ۴۱ عدد نفی کریں باقی اعداد کے حروف بنائیں

اور آگے آئیل کا اضافہ کریں اسم بنا لیں اور
اوپر لکھے گئے عمل میں جہاں نقطے کے نشان ہیں
وہاں اس عمل کو پڑھیں
مثلاً جیسے میرے اعداد 590 ہیں

نفی قاعدہ	41
باقی	549

ان کے حروف بنے

500 40 9
ث م ط

مکمل حروف بنا (طمثیل) یا طمثائیل

صرف سات یوم کا عمل ہے بہت جلالی و جمالی گوشت
ہر قسم انڈہ مچھلی دودھ جماع لہسن پیاز سب پرہیز
کرنا ہے
ہفتہ کی رات عمل پڑھیں الگ تھلگ کمرے
میں اچھی خوشبو جلا کر عمل کی ابتدا کریں

ہفتہ = 12000	منگل = 4000
اتوار = 28000	بدھ = 13000
پیر = 7000	جمعرات = 3000

جمعہ = 1000

وقت پڑھائی رات گیارہ بجے

چھٹی رات کو ایک (1) عورت کی شکل میں جو خوبصورت یا بدصورت کسی بھی حال میں حاضر ہوگی یہ عامل کو ڈرانے کی روپ بدل کر کسی کمرے کا خوف نہ کھائیں

اس سے قول و قرار کر لیں دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لیں

یہ روح ہمزاد کی طرح آپ کے ساتھ رہے گی ایک منٹ میں دنیا بھر کی خبریں دے گی جن و لطف کے کام کرے گی بیمار یا بیماری کی دوا بتائے گی کوئی چیز نہ لائے گی

اس عمل کو تین سال بعد دوبارہ کرنا ہوتا ہے دو سے تین دفعہ کے بعد عامل اپنی روح کو بھی مسخر کر سکتا ہے اس کے

تسخیر جنات سورۃ مزمل و سورۃ جن

اس عمل کے دوران بے حد ڈر خوف آتے ہیں اس لیے اس عمل کو نڈر قوی و مضبوط اعصاب صوم و صلوٰۃ کا پابند صالح انسان ہی کرنے والا

وحشت اور خاتمہ زندگی کا امکان ہے

دوران عمل ہر وقت پاک و صاف رہیں آبادی سے باہر کسی الگ تھلگ جگہ پر حصار کر کے بعد نماز عشاء سات مرتبہ سورۃ جن اور 12 مرتبہ سورۃ مزمل اول آخر جتنی دفعہ ممکن ہو درود شریف پڑھے

دوران عمل خوشبو جلائے عمل 40 دن لگاتار کرے ہر روز روزہ رکھے نماز کی پابندی کرے

چالیس دن بعد طرح طرح کے خطرناک درندے اور جانور اپنی طرف آتا محسوس کریں گے خوف نہ کھائیں اگر ڈر لگا تو جان سے جائے گا یا وحشت میں اگر یہ رات ہمت کے ساتھ گزار لی تو صبح صادق کے وقت بشمنشاہ جنات ہمراہ مصاحبوں کے تشریف لائیں گے مطیع و مسخر ہوں گے

حصارِ کتاب

اس کتاب کے ہر عمل کے لیے یہ حصار لازمی کریں

تین یا سات مرتبہ آیت الکرسی
تین یا سات مرتبہ آخری دو قل
تین یا سات مرتبہ پر پھونکیں

رکھ رکھ اللہ محمد دی رکھ لوح کلام دی رکھ پنج
تن پاک دی رکھ ایک لاکھ 24 ہزار پیغمبر دی رکھ
طفیل محمد مصطفٰے دی رکھ مولا علی دی بی بی پاک
دی رکھ میراں محی الدین جیلانی دی رکھ میرے
پیر سید صفدر شاہ بخاری دی رکھ میری رکھو میرے
نال دیاں رکھو آسے پاسے دی رکھو کام کاروبار آل
اولاد دی مال باپ دی رکھو نہ کرا ٹوٹے نہ
بلاؤں بھوتوں کی نحبث کلا بہ پا پہ جن دیو پری
بھوت پریت روح قدمیں لاپال ملک منڈ عدے واہ
ویکھاں سید صفدر شاہ مالی شہرے علم دا تماشہ

بخور برائے حاضری ارواح

مقل ازرق مقل سرخ مصبر سائلہ
لوبان ذکر سندرس عود قاقلہ
جاوی مصبر یالبسہ شحم الخنزیر
دم الحمام حرائشہ

ہر چیز برابر وزن لیکر سب کو باریک پیس
لیں اور اچھی طرح مکس کر لیں
رات کے وقت آبادی سے دور کسی ویران
جگہ پر جلائیں
ارواح سامنے نظر آئیں گی اور عامل سے
گفتگو بھی کریں گی اور حاجت بھی
پوری کریں گی

بخور جنات

خون کبوتر سفید چربی بھیڑ یا تر
نر یالسہ چرائتہ

برابر وزن لیکر الگ الگ پیس لیں اور آپس
میں ملا لیں
اندھیرے ویران جگہ پر آگ جلائیں اور اوپر
یہ دھونی ڈالیں دھواں اٹھے گا تو جنات
حاضر ہونگے
اُن سے اپنی حاجت کہیں پوری کریں گے

بخور موکلات

ہُد ہُد کا دل اور سر اور خون
خون فصد انسانی برابر وزن لیکر
پیس کر گولیاں بنالیں الگ پاک صاف
مکان میں کوئلوں کی آگ پر دھونی جلائیں
موکلات گھر میں اترے دکھائی دینگے
تمام بخور یا دھونی جلاتے وقت عامل اپنا
حصار لازمی کرے ورنہ سخت نقصان اور
رجعت کا اندیشہ ہوگا جس کا علاج نہیں ہے

تمت بالخیر